



**Taxi & Limousine  
Commission**

**Bill Heinzen**

نائب مقام کمشنر/چینر

**Allan J. Fromberg**

معاملات عامہ

frombera@tlc.nyc.gov

**Rebecca Harshbarger**

معاملات عامہ

harshbargerR@tlc.nyc.gov

**33 Beaver Street**

**22nd Floor**

**New York, NY 10004**

## نوٹس: مالکان کو TIF کی ادائیگی میں تبدیلیاں

TLC مالکان کو ٹیکسی امپروومنٹ فنڈ (TIF) کی ادائیگیوں کو مندرجہ ذیل کے مطابق وسعت دے رہی ہے۔

### ہیک اپ کی ادائیگیوں میں تبدیلیاں

ویبل چینر کے لیے قابل رسائی گاڑیوں کو خدمات کے لیے پیش کرنے پر تمام میڈیٹلینز، اس سے قطع نظر کہ کوئی میڈیٹلین ویبل چینر کے لیے قابل رسائی گاڑی ہیک اپ کرنے کے لیے درکار ہو، اب ہیک اپ ادائیگیاں وصول کرنے کے لیے اہلیت کے حامل ہیں۔ اہلیت کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، مالکان کو لازمی طور پر:

1. TIF مالکان پروگرام میں اندراج کروانا چاہیئے، اور
2. ویبل چینر کے لیے قابل رسائی ایسی گاڑی کو ہیک اپ کرنا چاہیئے جس کو پہلے ہیک اپ ادائیگی موصول نہ ہوئی ہو (گاڑی کے VIN کی بنیاد پر)

اہلیت کا نیا تقاضا یکم جنوری 2019 اور اس کے بعد ہونے والے ہیک اپس پر قابل اطلاق ہے۔

### آپریشنل ادائیگیوں میں تبدیلیاں

آپریشنل ادائیگیاں (جنہیں پہلے "دیکھ بھال" یا "معائنہ" کی ادائیگیاں کہا جاتا تھا) اب چار سالہ زیادہ سے زیادہ مدت تک محدود نہیں ہیں۔ مالکان کو اب اس وقت تک آپریشنل ادائیگیاں ملتی رہیں گی جب تک ویبل چینر کے لیے قابل رسائی گاڑی خدمات کے لیے دستیاب رہے گی۔ مزید برآں، TLC ان ادائیگیوں کی تعداد کو سالانہ تین ادائیگیوں سے بڑھا کر چار سے ماہی ادائیگیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ اہلیت کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، مالک کو لازمی طور پر:

1. TIF مالکان پروگرام میں اندراج کروانا چاہیئے، اور
2. یقینی بنانا چاہیئے کہ میڈیٹلین سے ہیکڈ اپ ویبل چینر کے لیے قابل رسائی گاڑی پر سہ ماہی میں کم از کم 250 ٹرپ مکمل کرے اور ویبل چینر کے لیے قابل رسائی ایسی گاڑی چلنے کے دوران قابل رسائی ٹیکسی ڈسپچر کے نظام میں لاگ ان رہے

آپریشنل ادائیگیاں مندرجہ ذیل نظام الاوقات کے مطابق کی جائیں گی:

سہ ماہی	TPEP ٹرپس کے جائزے کی مدت	ادائیگی کی متوقع تاریخ
پہلی سہ ماہی	جنوری - مارچ	مئی
دوسری سہ ماہی	اپریل - جون	اگست
تیسری سہ ماہی	جولائی - ستمبر	نومبر
چوتھی سہ ماہی	اکتوبر - دسمبر	فروری

اگر اس بابت آپ کے کوئی سوالات ہیں کہ یہ تبدیلیاں آپ پر کیسے اثر انداز ہوں گی، تو براہ کرم TLC کے ٹیکسی امپروومنٹ فنڈ سے [tift@tlc.nyc.gov](mailto:tift@tlc.nyc.gov) پر رابطہ کریں یا ہمارے [اکثر پوچھے جانے والے سوالات](#) ملاحظہ کریں۔